



سوال

(437) نماز میں ایسے باریک کپڑے پہننے کا حکم جن سے ستر پوشی نہ ہوتی ہو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج کل باریک کپڑے کثرت سے پہنے جاتے ہیں۔ اور ان کا عام مسلمانوں میں بہت رواج ہو گیا ہے۔ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما میں تو اکثر نمازیوں نے یہ باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ نیچے نصف ران یا ٹلٹ ران تک انڈرویئر پہن لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ نیچے بنیان وغیرہ بھی پہنتے ہیں۔ لیکن اس سے زیر ناف حصہ باریک کپڑے سے نظر آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ستر پوشی تو نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔ تو کیا اس طرح کے باریک کپڑے پہننے سے ستر پوشی ہو جاتی ہے؟ براہ کرام راہنمائی فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازی کے لئے نماز میں ستر پوشی واجب ہے۔ اور اس کے لئے عریاں طور پر نماز پڑھنا جائز نہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہاں البتہ عورت کے لئے ستر پوشی کا حکم زیادہ تاکید اور کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ آدمی کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اور حسب مقدور دونوں یا ایک کندھے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ:

«ان کان الثوب واسما فاحت بہ وان کان شیفا فآثر بہ» (صحیح بخاری)

"اگر کپڑا کشادہ ہو تو اسے پیٹ لو اور اگر تنگ ہو تو اسے چادر کے طور پر استعمال کرو"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

«لا یسل احدکم فی الثوب الواحد علی ما تقیہ منہ شیء» (صحیح مسلم)

"تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔"

نماز میں پھرے کے سوا عورت کا سارا جسم ہی پردہ ہے۔ عورتوں کے ہاتھوں کے بارے میں علماء اختلاف ہے۔ بعض نے تو ہاتھوں کے ڈھانپنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ اور بعض نے ان کے ننگا رکھنے کی رخصت دی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان شاء اللہ دونوں طرح گنجائش ہے۔ ہاں البتہ ڈھانپ لیا جائے۔ تو زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ جمہور اہل علم کے نزدیک عورت کے لئے نماز میں پاؤں کو چھپانا بھی واجب ہے۔



امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے۔ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا عورت چادر کے بغیر محض قمیض اور دھپے میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اذا كان الدرع سابغا يغطي ظور قدسيا» (سنن ابی داؤد)

"ہاں جب قمیض اس قدر کشادہ ہو کہ اس سے پاؤں کے اوپر چھپ جائے۔"

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "بلوغ المرام" میں لکھا ہے۔ کہ آئمہ کرام نے اس حدیث کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ واجب ہے کہ نماز میں مرد اور عورت کا لباس ایسا ہو جو ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ اور اگر لباس باریک ہو کہ اس سے ستر پوشی نہ ہو رہی ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلاً یہ کہ مرد نے اگر چھوٹی نیکر پہنی ہو کہ اس سے اس کے ران غیر مستور (ننگے) ہوں اور نیکر کے اوپر کوئی اور کپڑا نہ پہنے کہ جس سے ران چھپ جائیں تو اس حال میں اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس طرح اگر عورت اس قدر باریک لباس پہنے جو ستر پوشی کا کام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اور شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے۔ لہذا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر یہ واجب ہے۔ کہ وہ نماز کا خاص اہتمام کریں نماز کو اس کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ایسے امور سے اجتناب کریں جو نماز کو باطل کر دینے والے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَهْطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ... ۲۳۸ ... سورة البقرة

"(مسلمانو) سب نمازیں خصوصاً صبح کی نماز (یعنی نماز عصر) پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔"

نیز فرمایا:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ... ۴۳ ... سورة البقرة

"اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو"

بے شک نماز کا خاص اہتمام کرنا اور نماز کے شرائط اور تمام واجبات کو ادا کرنا بھی نماز کی اس حفاظت اور اقامت میں شامل ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے عورت کے پاس کوئی اجنبی شخص ہو تو پھر اس کے لئے چہرے کو چھپانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح طواف میں بھی عورت کے لئے سارے جسم کو چھپانا فرض ہے کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے۔ وباللہ التوفیق (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

حدیث ما عندی والنداء علم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 386



محدث فتویٰ